



سوال

(962) مستعار بالوں کا استعمال

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

عورت کے لیے "باروکہ" یعنی مستعار بالوں کا استعمال کیسا ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

”باروکہ“ حرام ہے اور وصل (یعنی بال جوڑنے اور ملانے) کے حکم میں ہے۔ یہ اگرچہ فی الواقع وصل نہیں ہوتا، تاہم اس سے عورت کا سر حقیقت کے خلاف بھرا بھرا نظر آتا ہے، اس لیے یہ وصل سے مشابہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے اصلہ اور مستوصلہ عورت کو لعنت فرمائی ہے۔ (صحیح بخاری، کتاب اللباس، باب الوصل فی الشعر، حدیث: 5589 سنن الترمذی، کتاب الادب، باب الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، حدیث: 2783، صحیح بخاری، کتاب اللباس، باب الواصلة والمستوصلة، حدیث: 5596 و صحیح مسلم، کتاب اللباس والزینة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، حدیث: 2124 و سنن ابی داود، کتاب التزجل، باب فی صلیة الشعر، حدیث: 4158-) (یعنی جو جھلی بال جوڑے اور جڑوائے)۔ ہاں اگر عورت کے سر پر بال بالکل ہی نہ ہوں اور گنچی ہو، تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں تاکہ یہ عیب چھپ جائے اور عیوب کا ازالہ جائز ہے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

احکام و مسائل، خواتین کا انسائیکلو پیڈیا

صفحہ نمبر 682

محدث فتویٰ